

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

سروے کے جائزے اور نتائج کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے پارٹیسپنٹ انفارمیشن شیٹ دیکھیں۔ اس صفحے میں سروے سے متعلق اکثر پوچھے گئے سوالات کے بارے میں مزید معلومات ہیں۔

آپ یہ سروے کیوں کر رہے ہیں؟

ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کووڈ-19 کی عالمی وباء اور لاک ڈاؤنز برطانیہ، سکاٹ لینڈ اور ویلز میں نسلی اقلیتوں کے لوگوں کو کیسے متاثر کر رہے ہیں۔ یہ سروے انفرادی طور پر وسیع تر عوام سے بھی لیا جا رہا ہے، تاکہ ہم لوگوں کے مختلف گروہوں کے نظریات سمجھ سکیں۔

یہ سروے کون کر رہا ہے؟

مساوات کے ثبوت کا قومی سروے Ipsos MOR منعقد کر رہی ہے، جو کہ ایک خودمختار سروے ایجنسی ہے اور اس کا انعقاد یونیورسٹی آف مانچسٹر کے سنٹر آف ڈائنامکس آف ایتھنیٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔

CoDE ایک چار سالہ انٹر ڈسپلینری پروگرام ہے جو نسلی عدم مساوات اور شناخت کو تبدیل کرنے کے بارے میں سمجھنے کے متعلق ہے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں:

<https://www.cmi.manchester.ac.uk/research/projects/code/>

میں کیسے حصہ لوں؟

آپ رجسٹریشن سروے میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آیا آپ بنیادی سروے میں حصہ لینے کے لیے اہل ہیں کلک کرتے ہوئے یہاں:

<https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2bHMIFDym5lOKg3UL40L4YcPmzT3ZhgS2XRRcsH3f9aYbvF9XZlqv9RXf%2f2dlVd2Xvs3qZdmM5qxS4%3d&id=partxt>
[est]

کیا میرے لیے آن لائن حصہ لینا ضروری ہے؟

نہیں، آپ ٹیلیفون کے ذریعہ بھی حصہ لے سکتے ہیں 0808 1296800 پر کال کر کے اور ایک پیغام چھوڑ کر یہ درخواست کرتے ہوئے کہ آپ کو واپس کال کی جائے (اس مدد کے صفحے کا رابطہ سیکشن دیکھیں)۔

بیلپ لائن پر کال کے اخراجات کیا ہیں؟

تمام بیلپ لائن نمبر مفت ہیں۔

کیا مجھے تمام سوالات کے جواب دینا ہوں گے؟

ان سوالات کا جواب دینا مکمل طور پر رضاکارانہ ہے، لہذا، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حصہ لیں گے، کیونکہ یہ ہمیں ممکنہ طور پر بہترین تصویر پیش کرے گا۔ تمام آبادیاتی سوالات کے لیے آپ "جواب دینے کو ترجیح نہیں دیتے" کا ایک انتخاب منتخب کر سکیں گے، اگر آپ جواب نہ دینا چاہتے ہوں۔

کیا میں کسی دوسری زبان میں سروے مکمل کر سکتا ہوں؟

آپ اس کے علاوہ بھی 13 متبادل زبانوں میں سروے مکمل کر سکتے ہیں، سروے کے آغاز میں اپنی ترجیح کو منتخب کرتے ہوئے (براہ مہربانی نوٹ فرمائیں کہ یہ ممکن ہے کہ مختلف زبانوں میں سروے فوری طور پر دستیاب نہ ہو)۔ ٹیلیفون سروے بھی کسی دوسری زبان میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ زبان کے اختیارات میں شامل ہیں عربی، ہنگالی، چینی، گجراتی، پولش، پرتگالی، پنجابی، گرو مکی، پنجابی: شاہ مکی، رومانیائی، صومالی، ترک، اردو اور ویلش۔

اپنا گفٹ واؤچر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟

ایک بار جب آپ سروے کو مکمل کر لیں گے تو آپ کو گفٹ واؤچر خود بخود بھیج دیا جائے گا۔ اگر آپ کو 2 ہفتوں کے اندر اپنا واؤچر موصول نہیں ہوتا، براہ مہربانی EVENS survey voucher - 20-089809-01 لکھ کر epanel-uk@i-say.com سے رابطہ کریں۔

میری جانب سے سروے میں فراہم کردہ ڈیٹا کو کیسے استعمال کیا جائے گا؟

اس بارے میں کہ ڈیٹا کو کیسے استعمال کیا جائے گا اور ڈیٹا کے تحفظ کے طریقہ کار کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے براہ مہربانی پارٹنیشنٹ انفارمیشن شیٹ (جو اس مدد کے صفحے پر ملے گی) کا حوالہ کریں۔

کیا میں آن لائن سروے کے دوران وقفہ لے سکتا ہوں؟

جی ہاں، آن لائن سروے کے دوران، آپ کی پیش رفت خود بخود محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ چاہیں آپ براؤزر کی ونڈو کو بند کر سکتے ہیں۔ آپ کی پیش رفت کو محفوظ کیا جائے گا۔ جب آپ سروے کو دوبارہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں، محض سروے کے صفحے پر واپس جائیں اس لنک پر کلک کرتے ہوئے جو آپ کو بھیجا گیا تھا۔

مجھے اپنا پوسٹ کوڈ اور تاریخ پیدائش فراہم کرنے کے لیے کیوں پوچھا گیا ہے؟

یہ ڈیٹا وسیع تعداد میں لوگوں کے نظریات کی نمائندگی پر تحقیق کی یقین دہانی کے لیے جمع کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر مختلف عمر کے لوگ اور مختلف جغرافیائی علاقوں میں رہنے والے لوگ۔ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ اس سوال کا جواب دیں اگر آپ نہیں چاہتے۔

تحقیق کے مقصد اور ڈیٹا کے استعمال کے حوالے سے اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ مہربانی پارٹنیشنٹ انفارمیشن شیٹ کا حوالہ کریں۔ ڈیٹا پرائیوسی کے بارے میں مزید تفصیلات یونیورسٹی آف مانچسٹر کے پرائیوسی نوٹس اور Ipsos MORI (ایپسوس موری) پرائیوسی پالیسی پر بھی مل سکتی ہیں۔ کسی قسم کے اضافی سوالات، جن کے Ipsos MORI (ایپسوس موری) کے معلوماتی صفحے پر جوابات موجود نہیں، براہ کرم evenssurvey@ipsos-mori.com پر ای میل کریں۔